




# HAUGA






Design and Quality  
IKEA of Sweden





6x

**1**



**2**



English	Magyar	Українська
<b>Care and cleaning</b> Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.	<b>Kezelés és tisztítás</b> Enyhe moszseres, nedves ruhával töröld le. Tiszta ruhával töröld szárazra.	<b>Догляд та чищення</b> Протираїте теканиною з м'яким засобом очищення. Витріть чистою сухою теканиною.
<b>Deutsch</b> <b>Reinigung und Pflege</b> Mit einem feuchten Tuch mit milder Seifenlösung abwischen. Trocken nachwischen.	<b>Polski</b> <b>Czyszczenie</b> Wytrzyj do czysta szmatką namoczoną w delikatnym środku czyszczącym. Wytrzyj do sucha czystą szmatką.	<b>Srpski</b> <b>Održavanje i čišćenje</b> Očisti krpom natopljenom blagim sredstvom za čišćenje. Osuši suvom krpom.
<b>Français</b> <b>Entretien et nettoyage</b> Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse. Essuyer avec un chiffon sec et propre.	<b>Eesti</b> <b>Hooldamine ja puuhastamine</b> Puuhastage niiske lapi ja õrnatoimelise puuhastuvahendiga. Kuivatage puhta lapiga.	<b>Slovenščina</b> <b>Vzdrževanje in čiščenje</b> Obriši s krpou, navlaženo z blagim čistilom. Do suhega obriši s čisto krpou.
<b>Nederlands</b> <b>Onderhoud en reinigen</b> Zorgvuldig afnemen met een vochtig doekje met een mild schoonmaakmiddel. Daarna afnemen met een schone doek.	<b>Latviešu</b> <b>Kopšana un tīrīšana</b> Tīrīt ar saudzīgā tīrīšanas līdzeklī samērcētu drānu. Noslaucīt ar tīru drānu.	<b>Türkçe</b> <b>Bakım ve Temizliği</b> Temiz bir bez, hafif bir temizlik malzemesi ile ıslatarak siliniz. Temiz bir bezle kurulayınız.
<b>Dansk</b> <b>Vedligehold og rengøring</b> Tørres ren med en klud opvredet i et mildt rengøringsmiddel. Tørres af med en ren klud.	<b>Lietuvių</b> <b>Priežiūra ir valymas</b> Valyti švelniame valiklyje sudrėkinta šluoste. Nusausinti švaria šluoste.	<b>中文</b> <b>清洁与保养</b> 将布用中性清洗剂蘸湿擦净。 用干净的布擦干。
<b>Íslenska</b> <b>Umhirða og þrif</b> Þrífið með rökum klút með mildu hreinsiefni. Þurrkið með hreinum klút.	<b>Portugues</b> <b>Manutenção e limpeza</b> Limpe bem com um pano humedecido numa solução detergente suave. Seque bem com um pano limpo.	<b>繁中</b> <b>保養及清潔說明</b> 用濕布沾有溫和清潔劑的擦拭乾淨。 再用乾淨的布擦乾。
<b>Norsk</b> <b>Vedlikehold og rengjøring</b> Tørk av med en klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Tørk med en ren klut.	<b>Româna</b> <b>Întreținere și curățare</b> Șterge cu o cărpă umezită în detergent diluat. Șterge cu o cărpă curată.	<b>한국어</b> <b>관리와 세척</b> 많이 더러워졌을 경우에는 엷은 중성세제를 사용하세요. 그리고 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.
<b>Suomi</b> <b>Hoito ja puhdistus</b> Puhdistaa mietoon pesuaineliukseen kostutetulla kankaalla. Kuivaa puhtaalla kankaalla.	<b>Slovensky</b> <b>Starostlivosť a údržba</b> Umyte handrou namočenou v jemnom čistiacom roztoku. Utrite dosucha čistou handrou.	<b>日本語</b> <b>お手入れ方法</b> 中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、 清潔な布でから拭きしてください。
<b>Svenska</b> <b>Skötsel och rengöring</b> Torka rent med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. Torka torrt med en ren trasa.	<b>Български</b> <b>Грижа и почистване</b> Избръшете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. Подсушете като забършете с чиста кърпа.	<b>Bahasa Indonesia</b> <b>Perawatan dan Pembersihan</b> Usapkan dengan kain basah yang direndam dalam detergen ringan. Lap kering dengan kain bersih.
<b>Český</b> <b>Návod na údržbu</b> Oštěpte mokrým hadříkem namočeným v jemném čisticím prostředku. Čistým hadříkem utřete dosucha.	<b>Hrvatski</b> <b>Njega i čišćenje</b> Očistiti krpom namočenom u blagom sredstvu za čišćenje. Obrisati čistom krpom.	<b>Bahasa Malaysia</b> <b>Penjagaan dan pembersihan</b> Lap bersih dengan kain yang dilembapkan dengan larutan pencuci lembut. Lap hingga kering menggunakan kain bersih.
<b>Español</b> <b>Mantenimiento y limpieza</b> Limpiear con un paño humedecido con una suave solución jabonosa. Secar con un paño limpio.	<b>Ελληνικά</b> <b>Συντήρηση και καθαρισμός</b> Καθαρίστε το με ένα πανί μουσκεμένο σε ένα ελαφρύ απορρυπαντικό. Στεγνώστε το με ένα καθαρό πανί.	<b>عربى</b> <b>العناية و التنظيف</b> امسح بقطعة قماش نظيفة مبللة بماء بمنشفة باردة. امسح بقطعة قماش جافة و نظيفة.
<b>Italiano</b> <b>Istruzioni per la pulizia</b> Pulisci con un panno inumidito in un detergivo poco concentrato. Asciuga con un panno asciutto.	<b>Русский</b> <b>Инструкция по уходу</b> Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством. Вытирать чистой сухой тканью.	<b>ไทย</b> <b>การดูแลรักษาและกำกับทำความสะอาด</b> ใช้ผ้าชุบน้ำอ่อนๆ เช็ดให้แห้ง ใช้ผ้าสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
		<b>Tiếng Việt</b> <b>Chăm sóc và vệ sinh</b> Lau sạch bằng khăn ẩm thấm dung dịch tẩy rửa nhẹ. Lau khô bằng khăn sạch.